



قائد اعظم ٹرافی فرسٹ ایون ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ کا تیسرا روز مکمل

- دفاعی چیمپئن سنٹرل پنجاب کو مسلسل دوسری شکست ، نعمان علی کے 11 شکار
- سدرن پنجاب اور بلوچستان کے درمیان میچ فیصلہ کن مرحلے میں داخل
- سندھ کو دوسری اننگز میں کے پی پر 128 رنز کی سبقت

کراچی، 2 نومبر 2020ء:

این بی پی اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں کھیلے گئے میچ میں ناردرن نے کپتان نعمان علی کے 11 شکار کی بدولت سنٹرل پنجاب کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ناردرن نے دوسری اننگز میں 33 رنز کا ہدف محض پانچ اوورز میں ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ عمیر مسعود 21 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ 195 رنز کے خسارے سے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کرنے والی سنٹرل پنجاب کی ٹیم نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 64 رنز سے میچ کے تیسرے روز کھیل کا دوبارہ آغاز کیا تو اس کی پوری ٹیم 64.3 اوورز میں 227 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کپتان اظہر علی نے 63 اور کامران اکمل نے 49 رنز بنائے۔ دونوں کھلاڑیوں کو نعمان علی نے ایل بی ڈبلیو آؤٹ کیا۔ پہلی اننگز میں 4 وکٹیں حاصل کرنے والے نعمان علی نے دوسری اننگز میں 7 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ اس سے قبل سنٹرل پنجاب کے 159 رنز کے جواب میں ناردرن نے اپنی پہلی اننگز میں 354 رنز بنائے تھے۔

نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جاری میچ کے آخری روز سدرن پنجاب کو جیت کے لیے مزید 84 رنز جبکہ بلوچستان کو 7 وکٹیں درکار ہیں۔ میچ کے تیسرے روز کھیل کے اختتام پر سدرن پنجاب نے 154 رنز کے تعاقب میں اپنی دوسری اننگز میں 3 وکٹ کے نقصان پر 70 رنز بنالیے ہیں۔ سیف بدر 23 اور عمر صدیق 4 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ اس سے قبل 41 رنز کے سبقت سے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کرنے والی بلوچستان کی پوری ٹیم 112 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بلاول بھٹی کی جگہ کن کشن متبادل کی حیثیت سے ٹیم میں شامل ہونے والے محمد عباس نے عمدہ باؤلنگ کرتے ہوئے 24 رنز کے عوض 2 وکٹیں حاصل کیں۔ بلاول بھٹی گیند لگنے کے باعث کن کشن قانون کے تحت میچ سے آؤٹ ہو گئے تھے۔ اسپنرز ابد محمود نے 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ بلوچستان کے اوپنر

عمران بٹ دوسری اننگز میں 32 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ میچ کی پہلی اننگز میں سدرن پنجاب کی ٹیم بلوچستان کے 372 رنز کے جواب میں 331 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ تیسرے روز سدرن پنجاب نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 245 رنز سے اپنی پہلی اننگز کا دوبارہ آغاز کیا تھا۔ میچ کے تیسرے روز مجموعی طور پر 18 وکٹیں گریں۔ بلوچستان کے کپتان یاسر شاہ نے میچ کی پہلی اننگز میں 5 وکٹیں حاصل کیں۔

یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں جاری میچ میں سندھ کو اپنی دوسری اننگز میں خیبر پختونخوا پر 128 رنز کی سبقت حاصل ہو چکی ہے جبکہ اس کی ابھی 7 وکٹیں باقی ہیں۔ 54 رنز کی سبقت سے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کرنے والی سندھ کی ٹیم نے میچ کے تیسرے روز کھیل کے اختتام پر 3 وکٹوں کے نقصان پر 74 رنز بنالیے ہیں۔ اسد شفیق 9 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ اس سے قبل سندھ کے 361 رنز کے جواب میں کے پی کی پوری ٹیم 307 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے۔ اسرار اللہ نے 67 ، ریحان آفریدی 53 اور عثمان شنواری نے 49 رنز بنائے۔ عاشق علی نے 5 جبکہ سہیل خان نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT QUAID-E-AZAM TROPHY 2020-21:

- 31 matches to be played on a double-league basis with each side guaranteed a minimum of 10 first-class matches. For schedule, click [here](#)
- The event will be played under [Covid-19 protocols](#) at four venues in Karachi, namely National Stadium, National Bank of Pakistan Sports Complex, State Bank Stadium and UBL Sports Complex.
- Central Punjab will defend the title they won in 2019-20 after beating Northern by an innings and 16 runs in the final at National Stadium, Karachi. Other four sides are Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Southern Punjab
- The event will take a break after three rounds and will resume from 20 November following the conclusion of the remaining four HBL Pakistan Super League 2020 matches, which were postponed on 17 March due to Covid-19 pandemic.
- The winner of the tournament will receive PKR10million while the runner-up will collect PKR5million
- PKR500,000 will be handed out to tournament's top-performers and the player of the final will get PKR50,000
- Players to earn PKR60,000, per match the double-league format provides a high-performing player to earn, at least, PKR600,000. This is part of the PCB's strategy and commitment to enhance earning opportunities as well as to reward high-performing cricketers. Click [here](#) to read more

As part of the US\$200million agreement with PTV Sports and I-Media Communications Services, the event will be produced by the PCB and broadcasted live on PTV Sports. Click [here](#), to read more about the three-year agreement

HELP PREVENT CORONAVIRUS



National Team Partners



Domestic Partners



- www.pcb.com.pk
- @therealpcb
- @PakistanCricketBoard
- @PakistanCricketOfficial
- @therealPCB

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium,
Ferozepur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4